

تصنیف کردہ: Edward Hughes

اس کے ذریعہ سچت: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

کے مطابق: M. Kerr; Sarah S.

ترجمہ کردہ: www.christian-translation.com

کی طرف سے تیار: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

لائسنس: آپ کو اس کہانی کی کاپی یا طباعت کا حق ہے،
جب تک کہ آپ اسے فروخت نہ کریں۔



خداوند چھا زانہہ تہندس گرس سُر
سوزمُت؟ یہ چھ انان وولسنس۔ یہ چھ
پزی دل پھولراوان! اسحاق تہ
ریکا آسہن انتہایی خوش۔
خدا مے اوس یمن دوکر
بچہ سوزن وول۔



بچہ اُسی ریکا ہندس
شکس منز نر زنگہ وایان۔
بیله سو عبادت کرنہ لُج۔
خداین وونس ز چانی یم ز
گوبر کرن دؤن قومن رہبری
تہ لوکٹ اکھ اُسی زیادے
عظمتہ وول۔ حالانکہ عام
پاٹھی چھ گوڈ زینہ وول ہنا
زیاد بہتر آسان۔ آخر تہ
زائے یم ز بچہ۔



يم دوڪر اُسي نه ٻم شڪل ته ڪينہہ۔ عيسو يعني زيوڻھ اکھ
اوس جڙل ته ٻه بنيوو ماہر شڪاري۔ يعقوب اوس ملايم ڙمہ
وول ته گرس اندي پڪي ڪام ڪرن وول۔ مول (اسحاق) اوس
عيسو بس زياد لول بران ته موج يعقوبس۔



اکھ دوہا سپد عیسو اوس بوچھ ہوت۔ "مے د کھینہ باپتھ کینہہ۔" تھی وون
یعقوبس۔ اد دے، کن مے گوڈ زاین دنک حق۔ یعقوبن وونس یور۔ عیسوہن

بور نہ خدایہ سند

امہ عمدک بڈس

بچس مطلق کائہ

وائے۔ تھی کور یعقوبس

ستی مہادیمہ کنی

مول مرنہ پتہ یعقوب امہ

گرک زیوٹھ بنیو۔



خدا سپدا اكه دو به اسحاقس ستي هم كلام۔ به چھس چانس مائي سندا يعني ابراهيم
سندا خدا۔ به چھس ژمے ستي۔ به كر چانين زرين پنن فضل۔ اگرچه اسحاق خدايه
سنز عبادت کران اوس مگر امسندی نيچيوي عيسو بن کور دوں
حتيتي کورين ستي خاندر۔ حتيتي لوکھ اسي نه خدائيس مازان۔



اسحاق ووت بجرس۔ "تلہ سا مے کیوت آنتہ تاز
ماز۔" تمی وون عیسوہس۔ "بہ کرے دعائے
خار" یہ گوڈنیک دعائے خار اوس پنس گوڈ زاو
بچس مائی سند طرفہ۔ عیسو لاریو ولی
شکارس۔ پیاری بوز یہنز یہ کتہ باتہ ربیکاہ۔
سو اس یژہان یہ رژاہی یعقوب سند باپتہ۔



ریکایہ سوئچ ووپامے۔ تمہ روں وُلّی وُلّی

اسحاق سُنْد منہ یوژ کھپن چین۔

پیاری شیری یعقوبن پانس عیسو سندی

پلو۔ اتھن تہ گردنہ لوگنس جُزل حیوان

سُنْد مسلہ۔ اسحاقسّ اوس نہ صاف

بوزنہ تہ یوان۔ شاید ہیکہ ہن تم

اسحاقسّ پچہ پھیور گرتھ۔



يعقوبن اؤن اسحاقس برونه كُن يه
خاص كهبن - "ژها چُهكه زنته يعقوب"
اسحاقن وونس - مگر اته تله چُهكه
باسان عيسو هيو - كهته چيته كور
اسحاقن رت دُعا يعقوبس يس تس
برونه كنه كوڻهين پيڻه اوس -



یتھہ یعقوب در او عیسو ووت
اسحاقس نش "رٹھ سا یہ گو چون
کہن۔" اسحاقس تور فکر ز تس
ستی آہ تارن گری کرنہ۔ بہ ہیکہ نہ
پنی دژمژ آہی واپس نتھ۔ تمی وون
بد ہٹہ۔ عیسو سندا دل او نفرت تہ
دیہ سستی بھرنہ۔ تمی کور یعقوب
قتل کرنک ارادہ۔



ريڪاڀَ بوز عيسو سنڌ دهمڪي - تمہ وون
يعقوبسَ "نير گڙھ ڙ پترِ سُنڌ گريٽس
کالس چانسِ بايسِ چون مشہ - " اسحاقن
مون ز يعقوب زھارِ ماجہ قبيلہ منڙ پانسِ کڙ
آشني - لہذا دراو يعقوبَ گرہ -



امہ رآژ ٹھہریو


يعقوب اکھ گنی شاند دتھ


شونگنہ باپتھ۔ شاید اوس تس گنپر

باسان۔ نتہ اوسس برے ژامت۔ مگر

سہ اوس نہ گنپے۔ تس وون

خداین خوابس منز۔





بہ چُھس خدا ابراہامَ جَد ابراہمَ تہِ مائس اسحاقَ سُنَد۔ بہ چُھسے ژمے سِتے۔
بہ بخشے ژمے یہ زمین۔ چانہ قبیلہ سِتے سَپدِ سارمے پتھر تہِ گرِ ساراب۔ خدایہ
سُنَدِ فرمانہ پتے ووتہ یعقوبَ نِنَدِر۔ سہ اوس ترہریومت۔



يعقوبسَ كور پنى پترن سيٹهاہ خوش
آوے۔ يعقوبَ رود پنے پتر بينہ راخلہ لول
بران۔ تہ گرن ستن وری ين لابن سنز
خدمت۔ تاکہ تس ميلہ راخل نیتھری۔



مگر خاندِرِ رَاژ منزِے گُر
لابنن يعقوبسَ تارن گری۔



"مگر یہ چھہ لیاہ نکہ راخِل۔" یعقوبن کُر شکایتہ۔ "یہ گئیہ تارن گری" گوڈ گڑھ
بجہ بینہ خاندنر سپدن۔ لابن وونس۔ "وونی کرتہ راخِلہ سیتی تہ کھاندنر مگر مہ چھہ
مدید ستن وری ین خدمت گرنی۔" یعقوبن مون ژھوپہ دم گرتہ۔ شاید ما پیس پنی
تارن گری یاد یوسہ تمی اسحاقس تہ عیسوہس سیتی گری۔



يعقوبسَ اَسى كاه گوڤر۔ وريا وريا گو تہ تس تہ
بڈيہ كل واپس كنعان گزھنچ۔ اَمسند مول موج
اوس تتى تہ عيسو تہ اوس اتى يمي تس مارنك عهد
اوس كورمت۔ خبر اور واٹن روزياہ زووكہ خطرہ
ورائے۔ اكہ دوہہ وونس خداوندن واپس گزھنہ باپتہ۔
يعقوبن سوَمبروو پُنن سورے عيال تہ
كھيول تہ سَكھريو واپس گر كُن۔



کياہ سفر اوس۔ عيسو آو اُمس ژور
ہتہ نفر ہيتہ سمگہنہ۔ مگر يعقوبس
واتنوون نہ کائہ زرپر۔ سہ آو لاراں
لاراں يعقوبس کُن تہ روٹن نالہ متہ۔
يعقوب تہ عيسو بنیہ بیہ زيار۔ تہ
يعقوب ووت حفاظتہ سان گر۔



تارن گور یعقوب

خدا کے کلام، بائبل کی ایک کہانی،

میں پایا جاتا ہے

پادائش 25-33

"آپ کے الفاظ کا داخلہ روشنی بخشتا ہے۔"

زبور 119:130



ختم شد



بائبل کی یہ کہانی ہمیں ہمارے حیرت انگیز خدا کے بارے میں بتاتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور کون چاہتا ہے کہ آپ اسے پہچانیں۔

خدا جانتا ہے کہ ہم نے برا کام کیا ہے، جسے وہ گناہ کا نام دیتا ہے۔ گناہ کی سزا موت ہے، لیکن خدا آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے، یسوع کو، صلیب پر مرنے اور آپ کے گناہوں کی سزا دینے کے لئے بھیجا۔ پھر یسوع زندہ ہوا اور جنت میں گھر چلا گیا! اگر آپ یسوع پر یقین رکھتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے کہیں گے، تو وہ کرے گا! وہ اب آئے گا اور آپ میں زندہ رہے گا، اور آپ ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔

اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے تو، خدا سے یہ کہنا:

پیارے عیسیٰ، مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہیں، اور میرے گناہوں کے لئے مرنے کے لئے ایک آدمی بن گئے، اور اب آپ دوبارہ زندہ ہوں۔ براہ کرم میری زندگی میں آئیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں، تاکہ میں اب نئی زندگی پاؤں، اور ایک دن ہمیشہ کے لئے آپ کے ساتھ رہوں گا۔ آپ کی اطاعت کرنے اور اپنے بچے کی طرح آپ کے لئے زندہ رہنے میں میری مدد کریں۔ آمین۔

بائبل کو پڑھیں اور خدا کے ساتھ ہر روز بات کریں! جان 3:16

